

4

دل نرّم کرنے کیلئے اور سختی ختم کرنے کیلئے

**يَا اَوْلِيٰ**

شب جمعہ 500 بار پڑھ کر دعا کریں

اول آخر 11-11 بار درود شریف پڑھیں

5

(اے دوست بنانے والے)

يَا قَدْوُدُ

1001 مرتبہ پڑھکر

نمک اور چینی پر دم کریں یا تصور میں پھونک ماریں

اسی نمک اور چینی کا کھانا، چائے تمام گھر والے کھائیں

آپس میں محبت پیدا ہوگی اور دل نرم ہوگا

یہ عمل مسلسل گیارہ دن تک کریں۔ اول و آخر (11)، (11) مرتبہ درود شریف پڑھیں

6

رزق کا انمول وظیفہ

سُبْحَنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ

سُبْحَنَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ ط وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللّٰهُ

طلوع فجر کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھے

غیب سے مدد ہوگی اور روزی کے دروازے کھل جائے گے

اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے

7

يَا سَلَامُ : اے سلامتی دینے والے

141 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر مریض پر

دم کر دیا جائے تو جلد صحت یاب ہو جائے گا۔

اول و آخر (11)، (11) مرتبہ درود شریف پڑھیں

8

پورے جسم پر جہاں پر بھی درد ہو

# وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلْهُ

(اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے اتارا)

آیت ۱۰۴ پارہ ۱۵ سورۃ بنی اسرائیل

41 مرتبہ پڑھ کر دم کریں یا ہاتھ پر دم کر کے پھیریں

اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک نوٹ: قرآنی آیت بے وضو چھونا سخت گناہ ہے

# بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جو شخص قید میں ہو یا غم، فکر میں مبتلا ہو تو اس کو  
 دن میں 1000 مرتبہ اور رات میں 1000 مرتبہ  
 پڑھے ان شاء اللہ نجات پائے گا  
 اول و آخر 11 گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے

10

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

100 مرتبہ

صبح و شام بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ پڑھ کر پانی پر دم کر کے

مریض کو پلائے اور دم کریں تو انشاء اللہ جلد صحت یاب ہوگا

اول و آخر 11 گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے



آپس میں رنجشیں اور نفرتیں ختم کرنے کے لئے اکیس عمل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

786 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں سب کو پلائیں

اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک نوٹ: قرآنی آیت بے وضو چھونا سخت گناہ ہے



# 13 يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ

یہ وظیفہ دنیا بھر کے تمام مسائل کا حل ہے آپ کے دل میں کوئی بھی حاجت ہو یا خدا نخواستہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں اس وظیفے کو مسلسل پڑھتے رہیں دن بھر میں کئی ہزار مرتبہ پڑھے ان شاء اللہ آپ کی مصیبت سو فیصد اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو سکتی ہیں اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کی حاجت سو فیصد پوری ہو سکتی ہے۔

نوٹ: ان تین اسم مبارکہ کو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین ہزار اسم مبارکہ پڑھنے کی برکت حاصل ہوگی۔ (حاشیہ دلائل الخیرات) اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔

# دفع بوا سیر

نماز فجر کی سنت میں پہلی رکعت میں **الم** **نشرح**

دوسری رکعت میں **الم** **ترکیف** پڑھا کرے

انشاء اللہ تعالیٰ بوا سیر دور ہو جائے گی

# يَا قَادِرُ

11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر وضو کیلئے بیٹھ جائے اور وضو کے دوران **يَا قَادِرُ** کا ورد جاری رکھے وضو کے بعد 2 رکعت تحیت الوضو ادا کریں اس کے بعد 100 مرتبہ **يَا قَادِرُ** پڑھے اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اس کے بعد جس سے جان چھڑانی ہے یا جو دشمن ہے اس پر تصور میں دم کریں جب تک جان نہیں چھوٹ جاتی یہ عمل جاری رکھیں۔

يَا ظَاهِرُ (اے سب سے ظاہر)

آنکھوں کے تمام امراض کیلئے

16

500.

روزانہ پانچ سو بار پڑھیں

اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔

**يَا وَهَّابُ** (اے بہت دینے والے)  
 جو شخص فاقے سے تنگ آ گیا ہو اور مدد کشتائی نہ ہوتی ہو تو  
 1000 بار نمازِ فجر کے بعد پڑھیں اور ہمیشہ اس کی کثرت  
 کریں انشاء اللہ تعالیٰ غیب سے روزی عطا کی جائے گی۔

اول و آخر (11)، (11) مرتبہ درود شریف پڑھیں

# يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

500 بار نماز فجر کے بعد اونچی آواز سے يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ کا ورد

کریں پھر ہاتھ پھیلا کر اپنے مقاصد کیلئے دعا کریں

اول آخر 11-11 بار درود شریف پڑھیں

# يَا مَجِيدُ

اے بڑی بزرگی والے

20

جلد کی تمام بیماریوں کیلئے اسلامی ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھے اور افطار کے بعد نماز مغرب تا عشاء یہ ورد کرتے رہیں اور بعد میں پانی یا کریم، لوشن، دوا جس سے فائدہ ہوتا ہو اس پر دم کر کے استعمال کریں

اول آخر 11-11 بار درود شریف پڑھیں



نیک اور فرمانبردار بنانے کیلئے

# يَا شَهِيدُ

روزانہ صبح ممکن ہو تو سر پر ہاتھ 21 بار پڑھ کر دم کریں

اول آخر 11-11 بار درود شریف پڑھیں

يَا بَدِيعُ (اے بغیر ذریعہ پیدا کرنے والے)

کوئی غم یا مصیبت یا کوئی مہم درپیش ہو تو 12 روز تک بعد نماز عشاء 1200 مرتبہ

يَا بَدِيعُ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيعُ ط

پڑھے تو 12 دن کے اندر تمام مقاصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔

اول آخر 11, 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں

ایک ہزار بار یا اللہ یا ہو  
 شام 3 ہزار بار یا حی (اے زندہ)

لا علاج مریض بھی ان شاء اللہ صحت یاب ہو جائے گا  
 صبح اور شام کے دو وظیفے پڑھ کر مریض کو اور پانی کو دم کریں

اور پانی کا استعمال مسلسل جاری رکھیں  
 اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔

# يَا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (عظمت و جلال اور انعام و اکرام والا)

قوت حافظہ کے لیے نمازی اسلامی بھائی یا بہن رات سوتے وقت تین عدد باوام کی گری پر تین مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ ایک گری اسی وقت، ایک صبح نہار منہ اور ایک دوپہر کے وقت کھائیں۔ بچوں کو والدین بھی یہ عمل کر کے کھلا سکتے ہیں۔ عمل کی مدت اکیس (21) دن ہے۔

اول آخر 11-11 بار درود شریف پڑھیں

# پایا متنگ پر

رات کو سوتے وقت سو (100) مرتبہ پڑھئے

اول و آخر 11، 11 مرتبہ درود شریف پڑھئے

يَا مُسَيَّبَ الْأَسْبَابِ (اے اسباب پیدا کرنے والے)

500 مرتبہ روزانہ گیارہ دن تک

بعد نماز عشاء، برہنہ سر، کھلے آسمان کے نیچے کھڑے

ہو کر ایسی جگہ پر پڑھیں جہاں کسی چیز کا سایہ نہ ہو۔

اول و آخر (11)، (11) مرتبہ درود شریف پڑھیں

# 27 **يَا أَيُّهَا سِطُّ**

امام اعظم ابوحنيفه رحمته اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر  
بوقت فجر 10 مرتبہ ہاتھ پھیلا کر **يَا أَيُّهَا سِطُّ** کہے اور  
چہرے پر ملے تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ فرمائے گا اور رزق  
کشادہ ہو، غم الم دور ہوں، تنگ دست اور مبتلائے قحط نہ ہو

اول و آخر (11)، (11) مرتبہ درود شریف پڑھیں



# یا قَوِّیُّ اے قوت دینے والے

جس شخص کو کمزوری ہوگی ہو اسے چاہیے کہ روزانہ گیارہ باداموں کی گریاں لے اور ہر گری پر ایک سو (100) مرتبہ یا قَوِّیُّ پڑھ کر دم کرے اسکے بعد انھیں کھالیں اس طرح چالیس دن تک یہ عمل کریں۔ ان شاء اللہ اس کے جسم کی طاقت بحال ہو جائیگی اور جو خوراک وہ کھائے گا، وہ جسم کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ ان شاء اللہ عزوجل

اول آخر 11-11 بار درود شریف پڑھیں

يَا مُتَعَالِي (اے بہت بلند والے)

جس عورت کو حیض کی تکلیف ہوتی  
ہو تو وہ اس اسم کو کثرت سے ورد کرے  
انشاء اللہ تعالیٰ تکلیف دور ہو جائے گی

اول و آخر (11)، (11) مرتبہ درود شریف پڑھیں

پریشانیوں اور مصائب سے چھٹکارے کیلئے

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے۔

کی کثرت اس سے 99 بلائیں دور ہوتی ہیں ان میں سب سے آسان تر بلا "پریشانی" ہے لا حول شریف روزانہ 60 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں۔

ان شاء اللہ عزوجل تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ دل کی گھبراہٹ کیلئے بھی ان شاء اللہ عزوجل مفید ہے۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے

# يَا لَطِيفُ (اے بڑے باریک بین) 35

اگر یہ اسم با وضو ایک سو مرتبہ پڑھا جائے تو دلی مراد پوری ہوگی۔ خاص کر کنواری لڑکی کی شادی کے لئے اس کا وظیفہ بے حد مجرب ہے۔ مسلسل ۲۱ روز تک بعد نماز عشاء با وضو پڑھا جائے اس اسم کو کثرت سے پڑھنے والے کی ہر حاجت پوری ہوگی، مشکلات میں آسانی ہوگی۔ مزاج میں لطافت اور نفاست پیدا ہوگی

اول و آخر (11)، (11) مرتبہ درود شریف پڑھیں

# آسیب دور کرنے کیلئے

يَا صَدِيقُ يَا عُمَرُ يَا عُثْمَانُ يَا حَيْدَرُ دَفْعُ شَرِّ كُنْ خَيْرًا وَرِيَا شَبِيرًا يَا شَبِيرُ

جب طبیعت خراب ہو اس وقت پڑھ کر دم کریں اور روزانہ 111 مرتبہ

بعد نماز عشاء ورد کریں ان شاء اللہ آسیب سے نجات حاصل ہوگی

اول آخر 11، 11 مرتبہ درود شریف

# یا نُورُ (روشنی کرنیوالا) 41

بعد نماز عشاء گیارہ مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر یا نُورُ

ایک ہزار بار پڑھیں، تمام جسم نور سے منور ہو جائے گا

اول و آخر 11,11 بار درود شریف

بواسیر، شوگر اور بلڈ پریشر سے بچنے کا عمل

**يَا مَالِكُ يَا قَدْوَسُ** (اے بادشاہ اور نہایت پاک)

یہ امراض بہت موذی ہیں،، جسے لگ جاتے ہیں پھر جانے کا نام نہیں لیتے

ہیں اسلئے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ موذی امراض سے حفظِ مارِ قدم بچنے کیلئے

**يَا مَالِكُ يَا قَدْوَسُ** کو روزانہ بعد نمازِ فجر ۳۳ مرتبہ اور نمازِ مغرب ۳۳

مرتبہ پڑھتے رہنا بہت مفید ہے۔ جو شخص باقاعدگی سے اس کا ورد جاری

رکھے گا وہ ان شاء اللہ عزوجل ان موذی امراض میں مبتلا نہیں ہوگا۔



# تمام بیماریوں کیلئے انتہائی فائدہ مند وظیفہ

نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ

پڑھ کر دم کریں اور دم کیا ہو اپانی پلائیں۔ روزانہ ہر نماز

کے بعد سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں

۷۷

# يَا مَتِينُ

500 بار پڑھیں

بچہ دودھ نہ پیتا ہو، کھانا نہ کھاتا ہو یا شرارتی ہو

اول آخر 11-11 بار درود شریف پڑھیں

**يَا اللَّهُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ**

قد بڑھانے کیلئے جسم مضبوط بنانے کیلئے

ہر نماز کے بعد 126 مرتبہ پڑھیں

اول اور آخر 11-11 بار درود شریف پڑھیں